



### سٹی 15 جون سے شروع کرتے ہوئے فوری یا ہمدردی کی بنیاد پر شادی کے لائسنس جاری کرے گا

برامپٹن، آن (10 جون 2020) – بروز پیر، 15 جون کو سٹی آف برامپٹن اپوائنٹمنٹ کے ذریعے فوری یا ہمدردی کی بنیادوں پر شادی کے لائسنس جاری کرنا شروع کرے گا۔ 16 مارچ سے سٹی کی سہولت گاہوں کی بندش کی وجہ سے، سٹی نے عارضی طور پر شادی کے لائسنس جاری کرنے کا کام روک دیا تھا، تاکہ کورونا وائرس (کووڈ-19) کی عالمی وباء کے دوران عملے اور رہائشیوں کی صحت و سلامتی کی حفاظت کی جا سکے۔

شادی کے لائسنس کی ہر درخواست کا انفرادی بنیاد پر جائزہ لیا جائے گا اور درخواست دہندگان کو لائسنس دیے جانے سے پہلے فوری یا ہمدردی کی شرائط کے مطابق جانچ کی جائے گی۔ سٹی جولائی 2020 کے اختتام سے پہلے منعقد ہونے کے لیے منصوبہ شدہ شادی کی تقریبات کو ترجیح دے گا۔

درخواست دہندگان سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ شادی کے لائسنس کی درخواست بذریعہ ای میل [marriage.licence@brampton.ca](mailto:marriage.licence@brampton.ca) پر بھیجیں۔ مؤرخہ 15 جون سے شروع کرتے ہوئے، درخواستوں کی جانچ آن لائن درخواست دینے کے ایک عمل کے ذریعے کی جائے گی اور ایک مرتبہ منظور ہو جانے پر، سٹی ایسے درخواست دہندگان کے ساتھ اپوائنٹمنٹ طے کرے گا، جن کا فوری یا ہمدردی کی بنیادوں پر شادی کے لائسنس کا تقاضہ کرنے کا تعین کیا جائے گا۔ شادی کے لائسنس کی درخواست اور ان تبدیلیوں کے حوالے سے مزید معلومات کے لیے [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) ملاحظہ کریں۔

شہریوں اور عملے کی صحت و سلامتی سٹی آف برامپٹن کے لیے اولین ترجیح ہے۔ سٹی کی سہولت گاہوں میں آنے والے لوگوں کی تعداد کو محدود کرنے کے لیے ہفتے میں دو دن اپوائنٹمنٹس طے کی جائیں گی، جبکہ وہ کورونا وائرس کی عالمی وباء کے دوران ابھی بھی عوام کے لیے بند ہیں۔ اس وقت شہری تقریبات کی تنسیخ برقرار رہے گی۔

30--

میڈیا کنٹیکٹ

مونیکا ڈوگال

کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | [Monika.Duggal@brampton.ca](mailto:Monika.Duggal@brampton.ca)